

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION MALAKAND



MIGRATION APPLICATION FORM (FROM ONE INSTITUTION TO ANOTHER) PARTICULARS TO BE FILLED IN BY THE STUDENT

Mig: S.No. _____

Fee Details	Urgent Fee	=	Rs. 1000/- (Within 24 Hours)
	Duplicate Fee	=	Rs. 1000/- (Within 24 Hours)
	Cancellation Fee	=	Rs. 250/-

The Head of the Institution should not issue the School Leaving Certificate (SLC) to the student until the Migration Certificate/No Objection Certificate (NOC) has been issued by the Board Authorities. Admission without migration will not be considered valid."

1. Name of Applicant _____
2. Father's Name _____
3. Registration No. _____
4. SSC/HSSC Exam: Passed Roll No _____
Year _____ Annual-I / Annual-II
5. Name of School/College Studying
(1).....
Name of School/College to which Migration is sought
(2).....
6. Reason for Migration
7. Bank/M.O Receipt No..... Date:...../...../.....
(Receipt attached)
Signature of Applicant _____
Signature of Guardian _____

Note

- (i).
(a) This form is to be sent through the Head of the Institution where the students is enrolled, who will certify the correctness of the statement made by the student.
(b) If the applicant is a detained student or one who has been degraded or against whom any disciplinary action has been taken. The Head of Institution should specifically mention in his remarks.
(ii). The student should obtain proper approval from the Head of the Institution to which they wish to migrate.

ہدایات

1. مانیگريشن فارم کومکمل پر کر کے طالب علم یاسرپرست اعلیٰ کے دستخط کے بعد دونوں اداروں کے سربراہان سے تصدیق کروائیے۔
2. مانیگريشن فارم کے ساتھ والد یاسگے بھائی یا اپنے قومی شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی منسلک کریں۔
3. فنی خرابی یا زلزلت ویریفیکیشن کی صورت میں مانیگريشن کے اجراء میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
4. مانیگريشن سرٹیفیکٹ منسوخ کروانے کے لئے اصل مانیگريشن، - 250 روپے بینک رسید اور حلفیہ بیان جمع کرانا لازمی ہوگا۔
5. ڈپلیکیٹ مانیگريشن سرٹیفیکٹ اسی بورڈ/یونیورسٹی کو ہوسکتی ہے جہاں پہلے مانیگريشن ہوچکا ہو۔ جس کے لئے مبلغ -/1000 روپے بینک رسید اور حلفیہ بیان جمع کرانا لازمی ہوگا۔

REMARKS (A)

- (i). Certified that the statement made by the student above is correct. Any other remarks vide. Note: i (a)(b)& (ii) above.
(ii) Any Other Remarks _____

Signature of the Head Office Seal Date
of the Institution

(Must) Institution: Code _____

Principal Contact No. _____

REMARKS (B)

I have no objection to this migration and will admit the student to the class if the migration is approved.

Any Other Remarks _____

Signature of the Head Office Seal Date of
the Institution

(Must) Institution: Code _____

Principal Contact No. _____

FOR OFFICIE USE ONLY:

Entries 1 to 7 verified.

May be allowed.

Migration is allowed.

1. Registration Asstt. _____ 2. Supdt: _____ 3. Asstt: Secretary (Acad) _____

Receipt for Candidate.

1. Name of Candidate _____ F/Name _____
2. Roll No. _____ SSC/HSSC (Annual-I/Annual-II) Year _____ Application received on _____
3. Migration issued date _____

Dealing Assistant _____

For more information please visit www.bisemalakand.edu.pk